




(uten bilde)

- III nivå 3
- urdu / nyorsk
- Samrina Sana
- Brian Wambi
- Lesley Koyi, Ursula Naftula



Den dagen eg drog heimанfra for å dra til byen

اے سٹوری بک کنپنی! عہد نو، دن

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreførmidlet av Barnebøker for Norge (barnebøker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Overrettet av: Samrina Sana (ur), Espen Strangær-Johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)

Illustrert av: Brian Wambi
Skrevet av: Lesley Koyi, Ursula Naftula
dagен ег дроg хеиманфa for a dra til byen
اے سٹوری بک کنپنی! عہد نو، دن

Barnebøker for Norge



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no>

Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons



یرے گاون کا چھوٹا سا بس سٹاپ لوگوں اور بھری ہوئی بسوں میں
مصروف تھا۔ زین پر رکھنے کے لیے اور جھی سامان موجود تھا۔

لئڈ کٹران جگہوں کا نام چلا کر بتا رہے ہے کہ بسیں کہاں جا رہی

ہیں۔

...

Den vesle busstasjonen i landsbyen min var travel
og stappfull av bussar. På bakken var det fleire
ting som skulle lastast. Med hjelparane ropte
namna på stadane dit bussane gjekk.

„Byen! Byen! Vestover!“ høyrde eg ein medhjelpar
ropa. Det var bussen eg møtte ta.

...

-*لَمْ يُكُنْ* *عَذَّابَهُمْ إِذْ*-*لَمْ يَرْأُ* *أَنَّ*
إِنَّ الْمُرْسَلَاتِ *عَذَّابَهُمْ إِذْ*-*لَمْ يَرْأُ* *أَنَّ*

Bussen som skulle tilbake vart flyt opp fort. Det
viktigaste for meg var å bygja å leita etter huset
til onkelen min.

...

-*لَمْ يُكُنْ* *مُكْتَرٌ* *لَمْ يَرْأُ*
أَنَّ *بَشَرًا* *يَرْتَدِدُ* *لَمْ يَرْأُ* *أَنَّ*
يَقُولُ, *يَأْكُلُ*-*يَأْكُلُ* *يَقُولُ* *لَمْ يَرْأُ*, *لَمْ يَرْأُ*

شہر کی بس تھرپاً بھر چکی تھیں لیکن مزید لوگ اندر جانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اپنا سامان بس کے نیچے رکھا باقیوں نے اپنا سامان اندر بننے خاؤں میں رکھ دیا۔

...

Bussen til byen var nesten full, men fleire folk dytta for å koma om bord. Nokre plasserte bagasjen sin i bagasjerommet under bussen. Andre la han på hyllene inne i bussen.

و گھنٹوں بعد میں گاؤں کے لیے واپس جانے والی لگائی گئی آوازوں کے شور سے نیند سے بیدار ہوا۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ دوچا اور بس سے باہر چھلانگ لگادی۔


...

Ni timar seinare vakna eg av høglydt banking og roping etter passasjerar som skulle tilbake til landsbyen min. Eg greip fatt i den vesle veska mi og hoppa ut av bussen.

Nye passasjerar kalla seg til billettaue sine
medan dei ság etter ein stad á síta sidan det var
tronigt om plassene. Kvinner med unge barn la til
rette for dei så dei skulle få det behagleg under
den lange reisa.

—گمشد علی گو

لَرْ بِعَدْ نَمْ مَهْدَى إِبْ لَفْنَدْ لَهْشَرْ، لَيْمَوْ - لَتْرَ
لَهْشَرْ، لَيْمَوْ - لَهْشَرْ، لَيْمَوْ - لَهْشَرْ، لَيْمَوْ - لَهْشَرْ،
لَهْشَرْ، لَيْمَوْ - لَهْشَرْ، لَيْمَوْ - لَهْشَرْ، لَيْمَوْ - لَهْشَرْ، لَيْمَوْ - لَهْشَرْ،
لَهْشَرْ، لَيْمَوْ - لَهْشَرْ،



På veggen lærtre eg meg utanat namnet på staden i den store byen der onkelen min budde. Eg munla enno dā eg fall i søvn.

1

حَوْلَهُ تَخْرِفُ أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ مَنْ يُشَدِّدُ
كَمْ كَسَبَهُ بِنَعْمَتِهِ لَمْ يَجِدْ

میں آگے جا کر ایک کھڑکی کے پاس یہاں۔ یہ رے آگے یہاں تھے
آدمی نے سبزرنگ کا ایک پلاسٹک کا تھیلہ اپنے ہاتھوں میں دبا کرنا
تھا۔ اُس نے پرانے جو تے پہنچا، ایک چھٹا ہوا کوٹ
اور وہ کافی پریشان دھائی دے رہا تھا۔

...

Eg pressa meg inn ved sida av eit vindauge.
Personen som sat ved sida av meg heldt hardt om
ein grøn plastpose. Han hadde på seg gamle
sandalar, ein utslitен frakk, og han såg nervøs ut.

لیکن یہ ادامع گھر کی طرف جھکا۔ کیا یہ ری ماں حفظ ہو گی؟ کیا یہ رے
خرگوش کوئی پیسہ لا سکیں گے؟ کیا یہ اجھائی یہ رے چھوٹے پدوسوں کو
پانی دے گا؟

...


Men tankane mine vandra heim. Kjem mor mi til å
verta trygg? Kjem kaninane mine til å innbringe
nokre pengar? Kjem bror min til å hugsa å vatna
dei nyutsprungne trea mine?

Eg såg ut av bussen og insåg at eg var i fred med
vakse opp. Eg skulle dra til den store byen.
Å forlate landsbyen min, stadens der eg hadde

...

-*لَا يَرْكَبُونَ*


لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ
لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ



Ett kvarter som reisa heldt fram vart det veldig
varmt i bussen. Eg lukka auga og hæpte å fá sova.

...

-*لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ*
لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ، لَا يَرْكَبُونَ



سامان مکمل ہو چکا تھا اور مسافروں نے اپنی اپنی جگہ اے لی
تھی۔ سامان پہنچنے والے اجھی جھی دھکادے کر بس کے اندر
اپنا سامان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر کوئی چلا رہا تھا جو چیز
اُس کے پاس پہنچنے کے لیے موجود تھی۔ اُن کے العاظ
یرے لیے مزاہیہ تھے۔

...

Lastinga av bagasjen var ferdig og alle
passasjerane hadde sett seg. Gateseljarar pressa
seg enno inn i bussen for å selja varene sine til
passasjerane. Alle ropte namna på det dei hadde

جیسے ہی بس، بس سٹاپ سے نکلی میں نے کھڑکی سے باہر
جانکا، میں نے سوچا کہ کیا کبھی میں دوبارہ گاؤں واپس آپاون گا۔

...

I det bussen forlét busstasjonen, stira eg ut av
vindaugen. Eg lurte på om eg nokosinne skulle
koma tilbake til landsbyen min igjen.

fleire varer.

Gatesseljarar dyttar kvarandre for å komma seg ut av
bussen. Nokre gav tilbake vekslpenge til dei
reiaside. Andre freista i siste liten å selja nokre
fleire varer.

...

—**عَلَيْكُمْ مَنِعَةٌ عَنِ الْجُنُونِ، وَجَنَاحَاتٌ**
إِلَى السَّمَاوَاتِ الْمُتَّرَفَّةِ، بِهِمْ إِلَيْهِمْ أَنْزَلْنَا
أَنَّهُمْ مُنْذَهُونَ، لَمْ يَرْأُوا مَا نَحْنُ نَرَاهُ

چند مسافروں نے مسروب خریدے باقیوں نے کھا نے والی
چیزیں اور انہیں چبانا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جن کے پاس یہی
طرح پیسہ نہیں ہوا صرف دیکھتے رہے۔

...

Nokre få passasjerar kjøpte noko å drikka, andre
kjøpte små snacks som dei byrja å tygga på. Dei
som ikkje hadde nokre pengar, som eg, berre såg
på.

یہ سرگرمیاں بس کے مسلسل ہارن کی وجہ سے متاثر ہو رہی تھیں
لیکن یہ ایک نشانی بھی تھی کہ ہم جا نے کے لیے نیاریں۔ کہڈکٹر
سامان پہنچنے والوں پر بہت زور سے چلایا کہ وہ باہر چلے جائیں۔
...

Desse aktivitetane vart avbrotna av tutinga til
bussen, eit teikn på at vi var klare til å dra. Ein
medhjelpar ropte at gateseljarane måtte koma
seg ut.